

365511 - کیا رمضان میں دن کے وقت کورونا ویکسین لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟

سوال

رمضان میں روزے کے دوران کورونا کوویڈ 19 کی ویکسین لگوانے کا کیا حکم ہے؟

جواب کا خلاصہ

رمضان المبارک میں دن کے وقت کوویڈ 19 کی ویکسین لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے ، کیوں کہ یہ علاج کے لیے لگائے جانے والے ٹیکوں کا حکم رکھتی ہے اور علاج کے ٹیکوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؛ کیونکہ یہ ٹیکے کھانے پینے میں نہیں آتے اور نہ ہی معنوی طور پر کھانے پینے کا حکم رکھتے ہیں۔

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

رمضان المبارک میں دن کے وقت کوویڈ 19 کی ویکسین لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے ، کیونکہ یہ ایسے میڈیکل انجیکشن کے تحت آتا ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ نہ تو کھانا پینا ہیں، اور نہ ہی انہیں کھانے پینے کا حکم دیا جاتا ہے، نیز یہ کھانے پینے کے معمول کے راستے یعنی منہ اور ناک سے بھی جسم میں داخل نہیں ہوتے۔

"اسلامی فقہ اکیڈمی کے دسویں اجلاس منعقدہ بمقام جدہ، سعودی عرب 23 تا 28 صفر 1418 ہجری بمطابق 28 جون تا 3 جولائی 1997ء میں اسلامی فقہ اکیڈمی کی جانب سے علاج معالجے کے متعلق روزہ توڑنے والی اشیا کے بارے میں مقالہ جات پرکھے گئے جس میں اسی طرح 9 تا 12 صفر سن 1418 ہجری بمطابق 14 تا 17 جولائی کو اسلامک آرگنائزیشن برائے میڈیکل سائنسز کی جانب سے دار بیضا - مراکش میں اسلامی فقہ اکیڈمی و دیگر اداروں کے تعاون سے منعقد کردہ نویں فقہی کانفرنس کے اعلامیے ، مقالہ جات اور تحقیقات بھی زیر نظر رہیں، نیز اس موضوع پر علمائے کرام اور طبی ماہرین کی بات چیت اور گفتگو بھی سنی گئی ، نیز کتاب و سنت کے دلائل اور فقہائے کرام کا کلام بھی مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل اعلامیہ حتمی قرار پایا:

اول: درج ذیل امور سے روزہ نہیں ٹوٹے گا:

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

8- جلد، پٹھوں، اور رگوں میں بطور علاج لگائے جانے والے ٹیکے، لیکن اس میں ایسے محلول اور ٹیکے شامل نہیں ہیں جو بطور غذا استعمال ہوں۔

مجلہ اسلامی فقہ اکیڈمی، شماره نمبر: 10

دائمى فتوى كميٲى كے فتاوى (10/252) ميں ہے كہ:

"روزے دار علاج كيلیے رمضان ميں دن كے وقت پٹھوں يا رگ ميں ٹيكا لگوا سكتا ہے يہ جائز ہے، تاہم رمضان ميں دن كے وقت غذائى ٹيكلے لگوانا جائز نہيں ہے؛ كيونكہ اس كا حكم كھانے پينے كا ہے، نيز ايسے ٹيكلے لگوانا رمضان ميں روزہ توڑنے كيلیے حيلہ بازى ميں شمار ہو گا، اور اگر علاج كيلیے ٹيكلے بھى رات كے وقت لگوانا ممكن ہو تو يہ سب سے بہتر ہے" ختم شد

شيخ ابن عثيمين رحمہ اللہ كہتے ہيں:

"علمائے كرام نے روزے توڑنے والى اشيا ميں يہ بھى شامل كيا ہے كہ: جو چيزيں كھانے پينے كے حكم ميں آتى ہيں ان سے بھى روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثال كے طور پر غذائى ٹيكلے۔ جبكہ غير غذائى ٹيكلے وہ ہوتے ہيں جن سے جسم ميں چستى پيدا ہو يا انہيں كسى بيمارى سے شفا يابى كيلیے لگايا جائے، چنانچہ كھانے پينے كا فائدہ غذائى ٹيكلے ہي ديتے ہيں، اس ليے ايسے تمام ٹيكلے جن سے كھانے پينے كا فائدہ نہيں ہوتا ان سے روزہ نہيں ٹوٹتا چاہے وہ رگ ميں لگائے جائیں يا كولہے ميں يا كسى بھى جگہ" ختم شد

"مجموع فتاوى و رسائل عثيمين" (199 / 19)

اسى طرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمہ اللہ سے استفسار كيا گيا:

"كيا ويكسين كے ٹيكلے روزوں پر اثر انداز ہوتے ہيں؟"

تو انہوں نے جواب ديا:

"نہيں ان سے روزوں پر كوئى اثر نہيں ہوتا، روزہ صحيح رہے گا؛ كيونكہ ويكسين كے ليے لگائے جانے والے ٹيكلے اور ديكر علاج معالجے والے غير غذائى ٹيكلے صحيح موقف كے مطابق روزے پر اثر انداز نہيں ہوتے، ہاں غذائى ٹيكلے سے روزے پر منفى اثر پڑے گا، يعنى غذا كا كام كرنے والے ٹيكلے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ليكن ويكسين والے ٹيكلے سے روزہ نہيں ٹوٹے گا، لہذا علاج معالجے كے ليے لگائے جانے والے ٹيكلے سے صحيح موقف يہى ہے كہ ان كا روزوں پر منفى اثر نہيں ہوتا، لہذا روزہ صحيح ہو گا۔"

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

میزبان: اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، چاہے یہ ٹیکے پٹھوں میں لگائے جائیں یا رگوں میں!؛

الشیخ: جی مطلق طور پر ٹھیک ہے، یہی صحیح موقف ہے۔ " ختم شد

ماخوذ از: [الشیخ ابن باز کی ویب سائٹ](#)

الشیخ ڈاکٹر سعد ختلان حفظہ اللہ کہتے ہیں:

"اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں دن کے وقت کورونا کی ویکسین لگوا لیتا ہے تو کیا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا؟

جواب: نہیں اس کا روزہ فاسد نہیں ہو گا؛ کیونکہ کورونا ویکسین کا تعلق بھی علاج معالجے سے تعلق رکھنے والے

ٹیکوں سے ہے، اور علاج معالجے کے لیے لگائے جانے والے ٹیکوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، راجح موقف یہی ہے؛

کیونکہ یہ ٹیکے کھانے پینے میں نہیں آتے، اور نہ ہی ان کا حکم کھانے پینے والا ہے، چنانچہ اصل یہ ہے کہ روزہ

صحیح ہو، اور اس اصول کو ہم تبھی ترک کریں گے جب کوئی بالکل واضح معاملہ سامنے آئے۔

اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ کورونا ویکسین لگوانے سے روزے پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا، روزے دار یہ ویکسین لگوا

سکتا ہے۔ " ختم شد

[گفتگو کا ویڈیو لنک](#)

واللہ اعلم